

مُنْفَصِلٌ ضَمِيرٌ: (Mufasil Zameer (Detached Pronouns))




"مُنْفَصِلٌ" کا لفظی معنی ہے (فاصلے پر آنے والا) وہ "ضَمِيرٌ" جو الگ سے استعمال ہوتی ہو۔ یعنی جو "ضَمِيرٌ" کسی اسم فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر نہ استعمال ہوتی ہو۔ اسے "مُنْفَصِلٌ ضَمِيرٌ" کہتے ہیں۔

Mufasil means at a distance. A pronoun which is used separately and is not attached to a noun, verb or a letter is known as Mufasil Zameer .

مُتَّصِلٌ ضَمِيرٌ: (Muttassil Zameer (Attached pronoun))

"مُتَّصِلٌ" کا لفظی معنی ہے (جڑ کر آنے والا) وہ "ضَمِيرٌ" جو الگ سے استعمال نہ ہوتی ہو۔ یعنی جو "ضَمِيرٌ" کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر استعمال ہوتی ہو۔ اسے "مُتَّصِلٌ ضَمِيرٌ" کہتے ہیں۔

Muttassil means attached. A pronoun which is not used separately but is used attached to a noun, verb or a letter is known as Muttassil Zameer .

موجودگی Presence	ضَمِيرٌ مَرْفُوعٌ مُنْفَصِلٌ (الگ ضمیر) Detached Marfu Pronouns.	
	وہ ایک وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ (He - singular masculine third person)	هُوَ
	وہ دو تَثْنِيَّةٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ (They - two masculines third person)	هُمَا
	وہ سب جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ (They - all masculine third person)	هُم

Lesson 4

	<p>وهَا يَك</p> <p>وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ</p> <p>(She – singular feminine third person)</p>	<p>هِيَ</p>
	<p>وهِنَّ</p> <p>تَثْنِيَّةٌ مُؤَنَّثَةٌ غَائِبَةٌ</p> <p>(They – two feminine third person)</p>	<p>هُمَا</p>
	<p>وهيَّ</p> <p>جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ</p> <p>(They – all feminine third person)</p>	<p>هُنَّ</p>
	<p>تَمَّ يَك</p> <p>وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – one masculine present)</p>	<p>أَنْتَ</p>
	<p>تَمُّو</p> <p>تَثْنِيَّةٌ مُذَكَّرَةٌ مُخَاطَبَةٌ</p> <p>(You – two masculine present)</p>	<p>أَنْتُمَا</p>
	<p>تَمُّسِب</p> <p>جَمْعٌ مُذَكَّرٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – all masculine present)</p>	<p>أَنْتُمْ</p>
	<p>تَمَّ يَك</p> <p>وَاحِدَةٌ مُؤَنَّثَةٌ مُخَاطَبَةٌ</p> <p>(You – one feminine present)</p>	<p>أَنْتِ</p>

Lesson 4

	<p>تم دو</p> <p>تَنْبِيْهٌ مُؤَنَّثٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – two feminine present)</p>	<p>أَنْتُمَا</p>
	<p>تم سب</p> <p>جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ مُخَاطَبٌ</p> <p>(You – all feminine present)</p>	<p>أَنْتُنَّ</p>
	<p>میں</p> <p>وَإِحْدٌ هَذَا كَرُمْتَكِلْم</p> <p>(I – masculine first Person)</p> <p>میں</p> <p>وَإِحْدٌ مُؤَنَّثٌ مُتَكِلْم</p> <p>(I – feminine first Person)</p>	<p>أَنَا</p>
	<p>ہم دو</p> <p>تَنْبِيْهٌ هَذَا كَرُمْتَكِلْم</p> <p>(We- two masculine first Person)</p> <p>ہم دو</p> <p>تَنْبِيْهٌ مُؤَنَّثٌ مُتَكِلْم</p> <p>(We – two feminine first Person)</p> <p>ہم سب</p> <p>جَمْعٌ هَذَا كَرُم / جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ مُتَكِلْم</p> <p>(We – all masculine / We – all feminine first Person)</p>	<p>أَنْحُنَّ</p>

صِيغَة

Form

ضمائر کی تمام اقسام کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ - There are 14 forms of all types of pronouns.

3- مذکر غائب / 3 - مونث غائب / 3 - مذکر حاضر / 3 - مونث حاضر / 2- مذکر، مونث متکلم

صیغہ سے مراد کسی لفظ کے بارے میں ان مندرجہ ذیل باتوں کا علم ہونا ہے، کہ کوئی لفظ.....

Form: (Sigha) means to deal with the following three aspects of a word:

غائب ہے؟ حاضر ہے؟ متکلم ہے؟ - واحد ہے؟ ثنئیہ ہے؟ جمع ہے؟ - مونث ہے؟ مذکر ہے؟

عَدَد - جِنْس - غَائِب، حَاضِر، مُتَكَلِّم - اِعْرَاب

1. Number: Is it Wahid (singular) or dual (Tasniyah) or plural (Jama)?
2. Gender: Is it masculine (Muzakkar) or feminine (Muannas)?
3. Person: Is it Gayab (one spoken about) or Haazir (one spoken to) or Mutakallim (one speaking)?
4. Case ending: is it Marfu , Majroor , Mansoob?

مَرْجِعُ الضَّمِيرِ

place of return

مَرْجِعُ (ر ج ع) مادہ سے لغوی معنی ہے (پلٹنے کی جگہ)۔

From root Ra Jeem Ain Marja'un Literally Marji' means the place of return.

گرامر کی اصطلاح میں (مَرْجِعُ الضَّمِيرِ) ضمیر کا مرجع سے مراد جس اسم کی طرف ضمیر پلٹتی ہے۔ یعنی پہلے کسی اسم کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس اسم کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ جس کی طرف ضمیر کو منسوب کیا جاتا ہے اسے ضمیر کا مرجع کہتے ہیں۔ مرجع کے بغیر ضمیر کی مستقل کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔

ضمیر کا مرجع کبھی لفظی طور پر جملہ میں موجود نہیں ہوتا۔ مگر معنوی طور پر ذہن میں ہوتا ہے۔

A Dhameer has to have a Marja' (a place to return). It is the Ism (noun) which the Dhameer refers to. First comes the Ism (noun) and then a Dhameer (pronoun) is used in its place. Without a Marja' a Dhameer does not have a position.

Lesson 4

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ (البقرة: 259)

یا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک شہر پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا

Or like the one who passed by a town while it had tumbled over its roofs.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ (البقرة: 54)

بے شک جنہوں نے انکار کیا اور انکار ہی کی حالت میں مر بھی گئے

Indeed, those who disbelieve and die while they are disbelievers.

﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ (التوبة: 40)

جس وقت اسے کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے

when those who disbelieved had driven him out [of Makkah] as one of two, when they were in the cave

